

6811  
6812  
6813  
6814  
6815

# تلاسم کا پیغام

اپنی مشن کی اہمیت کو سمجھنے والی خاتون

286

# تلاسم

پہلی خاتون اور اقوام کے نام

مصنفہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمین  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد  
الذي اصنافه جليله  
والعصاة اظلم

مطبوعہ پبلسٹی پرینٹرز

قیمت ۱۰ روپے

صفحہ ۱۳۵۵

تیسرا ہزار

# امامیہ مشن کی اڑتیسویں دینی خدمت

اس موقع پر جب کہ اچھوت مساوات حقیقی کی تلاش میں  
 مذاہب عالم کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور  
 لکھنؤ میں ۲۲ مئی کو مذاہب کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔  
 ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی حقیقی مساوات کو  
 پیش کرتے ہوئے دنیا کو اس کے حقیقی خط و حال سے روشناس کرائیں  
 یہ سالہ اچھوت اقوام میں مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور شیعہ  
 اور بابائیت سے امید ہے کہ وہ اس کو کثیر سے کثیر تعداد میں خرید فرما کر  
 خود بھی اپنے اپنے حلقہ میں تقسیم کرائیں۔

والسلام

maablib.org

سکرٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ

۲۲ مئی ۱۹۳۶ء

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

❖ (❖) ❖

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تم سب کا خدا ایک ہے۔  
 یہ بھی وہ آواز جس سے دنیا کی خاموش فضا ایک وقت گونج اٹھی  
 اس وقت جب ہر طرف تفریق کا دور دورہ تھا۔  
 متحدہ انسانیت کے پرچے اڑ گئے تھے اور مساوات باہمی کا شیرازہ  
 اس طرح بکھرا تھا کہ اجتماع کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔

دنیا نے خاوندی، مخلوق کے درمیان  
 مادی اسباب کے ماتحت مختلف حیثیتوں سے

## تفریق کے اسباب

تفریق قائم کر رکھی تھی

(۱) مال و دولت یعنی بہرہ و لمن آدمی فقیر اور محتاج، مفلوک الحال

انسان کو زلت کی نظر سے دیکھتا تھا۔

(۲) حسب و نسب یعنی پہلو و پٹی ذات کا آدمی بیخ ذات کو حقیر سمجھتا۔

(۳) رنگ - گورے رنگ والے کالے رنگ کو پست سمجھے۔  
اسلام نے دنیا میں آکر ان تمام تفریقوں کو مٹا دیا۔

والله الغنی وانتم الفقراء  
مال و دولت | غنی میں ایک خدا کی ذائقے، اور

سب فقیر ہیں۔ لہذا دولت مند اور فقیر کا تفرقہ باطل ہے

انما جعلناکم شعوبا و قبائل  
حسب و نسب | لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

مختلف خاندان اور گھرانوں کی تقسیم تو فقط پہچان کے لئے ہے۔ مگر تم میں  
سب سے زیادہ مغز دہ ہے جو اپنے فرائض کا سب سے زیادہ جاس لیکھے۔

پیغمبر اسلام نے ارشاد کیا۔ لا فخر للقرشی علی غیر القرشی  
ولا للعربی علی غیر العربی۔ کوئی فخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور  
عربی کو غیر عربی پر۔

رسول اسلام نے یہ بھی ارشاد کیا کہ بعثت الی اللہ الاحمر  
رنگ  
والا سود یہ رنگ کی تفریق کیسی۔ سرخ اور سیاہ  
سب میری امت میں داخل ہیں اس لئے سب برابر ہیں۔

# اسلام کے اصول و مساوات کی تعلیم

صرف اسلام دنیا کا ایک وہ مذہب ہے جس کے اصول عقائد ہی ایسے مقرر کئے گئے ہیں کہ جن پر مساوات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔

خدا ایک ہے۔ یہ پہلا سنگ بنیاد ہے

## (۱) توحید

جس پر مساوات کا تصور بند ہوتا ہے۔ ثمنی

فقیر۔ خاندانی۔ غیر خاندانی۔ گویے کالے۔ سرمایہ دار پیشہ ودا جس حیثیت سے سب برابر ہیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں۔ اور ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اور اسی لئے اسلام نے اس چیز کو اپنے اصول میں سب سے پہلا درجہ عطا کیا۔

دنیا میں مختلف طرح سے تفریق نظر آتی ہے

## (۲) عدل

کوئی رتہ نہیں ہے اور کوئی تکلیف میں کوئی

دولتمند ہے اور کوئی فقیر۔ کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تفریقیں سب ظاہری اعتبار سے ہیں۔ کیونکہ خدا

عادل ہے وہ کسی کیساتھ جانبداری نہیں کرتا اُس نے اگر ایک کو راحت

دی اور دوسرے کو تکلیف، تو جسے تکلیف دی اُسے اُس تکلیف کا کبھی نہ

کبھی معاوضہ دے گا۔ اس لئے نتیجہ وہ اس پہلے انسان سے مساوی قرار پائے گا

ایک کو دولت عطا کی اور ایک کو فقیر رکھا تو وہ دولت بھی آزمائش کی حیثیت سے ہے۔ اور یہ فقر و فلاکت بھی آزمائش کے لئے جس کا نتیجہ دونوں کو کامیابی اور ناکامیابی کی صورت میں ان کے اعمال کے مطابق ملے گا اس لئے نتیجہ دونوں مساوی ہیں۔ اس طرح دنیا کی سخت و نرم خوشگوار و ناخوشگوار حیثیتوں سے تفریق کی بنا پر ہرگز ایک شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اُسے دلیل سمجھے۔

یعنی خدا کا پیغام انسانوں کے نام انسانوں ہی

(۲۰) نبوت

ہیں سے ایک ایسی سستی کے ہاتھ پر اترتا ہے جو

عملی حیثیت سے بالکل کامل یعنی معصوم ہوتی ہے جو اسکی تصدیق کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ تسلیم کرے وہ کافر۔

جتنے لوگوں نے اُسکے اوپر ایمان اختیار کیا ہے سب کی امت ہیں

اور جتنے اسلام کے حقوق ہیں ان میں مساوی درجہ دیکھتے ہیں

اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا کہ "أغنا المؤمنون اخوة"

ایمان لانے والے سب بھائی ہیں۔ ان میں کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے۔

پیغمبر کے انتقال کے بعد اُس کا جانشین بھی وہی

(۲۱) امامت

ہوتا ہے جو عملی حیثیت سے کامل و اکمل یعنی

معصوم ہونے کی بنا پر پیغمبر کی زبانی خدا کی طرف سے نامزد ہو۔

اس میں نہ سن و سال کی قید ہے نہ مال و دولت کی شرط اور نہ قہر و  
 غلبہ کی ضرورت اس کے اطاعت کرنے والے ایمانی حیثیت سے تمام  
 مراتب میں شریک ہیں جنہیں امتیاز صرف عمل کی بنا پر ہے اور کسی بنا پر نہیں  
 یعنی ایک دن ہے جس میں ہر ایک کو اُس کے  
 (۵) معاد  
 کئے کا بدلہ دیا جائے گا حقیقت یہ وہ چیز ہے

جس کا احساس دنیا کی مختلف طاقتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایک طاقتور  
 اپنے سے کمزور کو پامال کرتے ہوئے صرف اسی احساس کی بنا پر ڈرتا ہے کہ اسکی  
 سزا ملنے کا اندیشہ ہے۔ ایک دولت مند اسی لئے فقیروں کی خبر گیری کرتا ہے  
 کہ اسکی سزا کی امید ہے

پھر اسکے لئے صاف طور سے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ "تجزی کل نفس  
 بجاتسعی" ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے سعی و کوشش  
 کی ہے۔ اور یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔  
 "لا خزرد وانزدة و نزاخسری" اور یہ کہ ذرہ بھر بھی عمل اس  
 دنیا کا رالگاں نہیں جاتا۔

"من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال  
 ذرۃ شرا یرہ" جو ایک ذرہ بھر اچھائی کرے گا اسے دیکھ لیگا اور جو  
 ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

## احکام مذہبی میں مساوات

عبادت گاہ { مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے

جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب و لازم ہے۔ اور اسکے بعد درجنہ مساجد کا ہے۔ جس میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔

ان تمام عبادت گاہوں میں مذہبی حیثیت سے کسی قسم کی تفریق نہیں دینی ہے

ایک بادشاہ اولوالعزم اور ایک فقیر بے نوا دونوں ایک موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

حج کے احکام میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ بڑے بڑے شہمی قحطی

پوشاک پہننے والے وہاں مجبور ہیں کہ ایک تہ بند اور ایک چادر اور ٹٹھے

اسی طرح احکام حج بجالائیں جس طرح ایک درویش بے سرمایہ فقیر۔

مسجدوں میں بھی اسی صورت سے مساوات قرار دی گئی۔ ان کے دروازے

برسلمان کے لئے یکساں صورت پر کھلے ہیں

جماعت کی نماز کے موقع پر یہ مساوات پورے

### نماز جماعت

طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ و گدا

ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر ایک فقیر سبلی

صف میں ہے اور دوسری صف میں تو اس میں کاسرا اس فقیر کے



پیروں کے پاس ہوگا۔

شادی بیاہ | شادی کے لئے کفو ہونے کی ضرورت ہے

تو اس کے لئے صاف اعلان کرو یا "المومن کفوالمومن"  
ہر مومن دوسرے کا کفو ہے۔

اس طرح شادی کے لئے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں  
قرار دی گئی ہے اور ہر مسلمان مرد کی شادی ہر مسلمان عورت کے ساتھ  
جائز قرار دی گئی۔

مسلمانوں کے درمیان چھوت چھات کو  
صرف اٹھایا ہی نہیں بلکہ اسکے خلاف

پوری کوشش کی گئی۔ اور مختلف طرح سے ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان  
ایک دوسرے کیساتھ بیگانگی کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ "سور  
المومن شفاء" ایک مسلمان کا اٹش دوسرے مسلمان کے لئے شفا کا  
باعث ہے۔ اس میں ہرگز کسی طرح کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔

— ( ) —

۱۵ یعنی اس کا چھوٹا کسانا یا باپنی۔

# پیغمبر اسلام کی عملی تعلیم

نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعہ سے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام سب سے پہلے اقوام کو بلند بنانے کا علمبردار ہے۔ اس کے لئے حسبِ میل مثالیں یادگار حیثیت رکھتی ہیں۔

ملک عرب میں غیر عرب راجھوت کا درجہ رکھتے تھے۔ رسول نے ایک غیر عرب انسان

## (۱) سلمان فارسی

فارس کے باشندہ سلمان کو اتنی عزت دی کہ دوسرے بڑے بڑے قوم و قبیلہ اور خاندانی وجاہت رکھنے والے افراد کو رشک ہوتا تھا۔

رسول نے سلمان کی عزت بڑھانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ سلمان

”مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ سَلْمَانَ هُمْ الْبَيْتِ مِنْهُمْ“

اور پیغمبر کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب سلمان کا نام آیا تو آپ نے فرمایا ”سلمان فارسی“ نہ کہو بلکہ ”سلمان محمدی“ کہو۔

ملک حبش کے رہنے والے سیاہ رنگ کے

## (۲) بلال حبشی

انسان بلال کو پیغمبر اسلام نے اپنی

مسجد کے موذن کا عہدہ دیا۔ تو زمانہ جاہلیت کی ذہنیت رکھنے والے

ہبت کے نو مسلموں کو بہت گراں گذرا اور کہا کہ یہ تو حروف بھی صاف  
 ادا نہیں کرتے۔ شین کو سین کہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں  
 کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ سین بدلوا شین عند اللہ۔ بلال کا سین  
 خدا کے نزدیک شین کا درجہ رکھتا ہے۔

### (۳) شادی بیاہ کے متعلق عملی مثال

غیر قوم کے شخص تھے۔ مفلوک الحال اور پریشان تھے۔ مسلمانوں میں  
 کوئی اپنی لڑکی دینے پر طیار نہیں ہوتا تھا۔ رسالتاً ب نے خود اپنی  
 چچا زاد بہن خبیہ بنت حارث بن عبد المطلب کا عقد ان کے ساتھ  
 پڑھ دیا اور اس کی عملی مثال ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔  
 زید بن حارثہ بھی غلام خرید کر رہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن کیساتھ  
 حضرت نے اپنی بھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کا عقد پڑھا۔

### پیشہ وری کا عہدہ

دنیا میں سرمایہ داری اور پیشہ وری کی بھی ایک تفریق قائم  
 کر لی گئی اور پیشہ وروں کو ذلیل نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔  
 پیغمبر اسلام نے خود تجارت کر کے نبوت کا سزا مہ تجارت سے ڈرا دیا

اور دنیا میں پیشہ کی عزت کو قائم کیا۔ اور اُن کے سب سے بڑے شاگرد  
 اور پہلے جانشین اونیائے اسلام کے سب سے بڑے پیشوا علی ابن  
 ابیطالب نے باغوں میں آب کشی کی اور مشیم خمار کی دوکان پر  
 بیٹھ کر خرمن فروخت کئے۔

## کفیش و وزی

دنیا کی تاریخ میں یہ نظیر بے مثال ہے کہ رسول کا چچا زاد  
 بھائی اُن کا داماد۔ اُن کا ولیعهد اور اُن کا جانشین مسجد کے ایک  
 گوشہ میں بیٹھا رسول کی جوتی ہاتھ میں لئے سی رہا ہے۔  
 دنیا کو سبق دے دیا کہ انسان کی عزت پر اس طرح کے کام  
 کرنے سے کوئی حزن نہیں آتا اور کسی کو صرف اس لئے ذلت کی نگاہ  
 سے نہیں دیکھا جاسکتا کہ وہ کفیش و وزی ہے اور جوتیاں بنا رہا ہے۔  
 یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علی اُس وقت بھی جب بادشاہ  
 تسلیم کئے جا چکے تھے اور حجاز و عراق و ایران وغیرہ وغیرہ پر حکومت  
 کر رہے تھے۔ تب بھی اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے تھے۔ اور اُسے  
 کوئی اپنی ذلت کی بات نہ سمجھتے تھے۔

## عسے اور قبر

اسلامی مسادات دیکھنا ہو تو ذرا عسے کا طرز عمل اپنے  
 غلام قبر کے ساتھ دیکھو۔ بازار میں قبر کے ساتھ جاتے ہیں۔ دو  
 پیراہن خریدتے ہیں ایک ساتھ درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات  
 درہم والا قبر کو دیتے ہیں۔ پانچ درہم والا خود پہنتے ہیں۔  
 قبر کہتے ہیں۔ مولایہ قہستی پیراہن آپ پہنتے۔  
 فرمایا۔ نہیں قبر، تم کس ہو، وہ پیراہن تمہارے لئے اچھا  
 ہے میں یہی پہن لوں گا جو پانچ درہم والا ہے۔

## حضرت فاطمہ اور فضہ

یہ بھی سنو کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی اور دہنما کے ہمسلم  
 علی بن ابی طالب کی شریک زندگی فاطمہ زہرا اپنی لونڈی فضہ  
 کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔  
 تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر بار کا کام ایک روز حضرت  
 فاطمہ کرتی تھیں اور ایک روز فضہ۔  
 اس کی مثال دنیا کی تازہ سبج میں ملنا غیر ممکن ہے

# شہید کر بلا

## اور فضیلت کنیز زہرا

سنو! سنو! مسلمانوں کی سب سے بڑی یادگار زندگی گھنٹے  
 بجائے عملی رہنما، پیغمبر کے نواسے، علیؑ فاطمہ کے بیٹے۔ حسینؑ  
 شہید کر بلائے کیا کیا؟

وہ حسبِ رخصتِ آخری کے لئے درخیمہ پر آئے۔ سب بہنوں  
 بیٹیوں اور تمام گھر میں مدہنہ والوں کو سلامِ رخصت کیا تو  
 انہوں نے خصوصیت سے نام لے کر فضا کو بھی سلام کیا تھا  
 اور یہ کہا تھا کہ

”السلام علی فضة جاریة اخی فاطمة الزہراء“

مطبووعہ علوم کر بلا اور  
 maablib.org

## جون غلامِ ابی ذر غف ساری

ایک مثال اور بھی سن لو! جون حبشی غلام تھے۔ رنگ  
 کھی سیاہ تھا۔ اور غیر لک کے رہنے والے تھے۔

کہ بلا میں حسین ؑ کی نصرت میں اپنا جان نثار کی۔ حسین جس طرح  
 عزیزوں و دوستوں کی لاش کے سر ہانے خود گئے تھے اسی طرح جون  
 کی لاش پر بھی گئے۔ اور اتنا زیادہ کیا کہ جوں کا سر اپنے زانو پر رکھا  
 رخسارہ اپنا غلام کے رخسارہ پر رکھا اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔  
 اسلام کی تاریخ اور حقیقی رہنمایان اسلام کی سیرت زندگی  
 ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

یا اور کھو کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے عقول اور عملی تعلیمات کے  
 اعتبار سے اس طرح مساوات کی حمایت ثابت نہیں کر سکتا جس طرح  
 اسلام۔ یقیناً اسلام ہی ایک تھا مذہب ہے جو پس افتادہ قوم  
 کو مساویانہ حقوق دینے کا صحیح علمبردار ہے اور ان کی ترقی و سر بلندی  
 کا ضامن ہے۔

والسلام  
 علی نقی النعمانی عفی عنہ  
 maablib.org

۲۸ صفر ۱۳۵۵ھ مطابق ۲۱ مئی ۱۹۳۶ء

# امامیہ مشن کے تبلیغی رسالے

نمبر	نام کتاب	نمبر	نمبر	نمبر	نام کتاب	نمبر
۱	قائدان حسین کا مذہب	۲۲	۱	۲۰	دی ڈیڈم آف حسین انگریزی	۲
۲	خریف قرآن کی حقیقت	۲۱	۱	۲۱	اسوہ حسینی	۳
۳	مولود کعبہ	۲۲	۱	۲۲	خطب صفین	۳
۴	وجود حجت	۲۳	۱	۲۳	تذکرہ خفا و شیعہ حصہ اول	۴
۵	صول دین اور قرآن	۲۴	۱	۲۴	حصہ دوم	۵
۶	اتحاد الفرقین حصہ اول	۲۵	۱	۲۵	مقصود کعبہ	۶
۷	حسین اور اسلام اردو	۲۶	۱	۲۶	مذہب باب بہا حصہ اول	۷
۸	ہندی	۲۷	۱	۲۷	مذہب اور سائنس	۸
۹	انگریزی	۲۸	۱	۲۸	معرکہ کربلا انگریزی	۹
۱۰	شعبہ اور اسلام	۲۹	۱	۲۹	کربلا کا ہرادیو ہندی	۱۰
۱۱	امامت ائمہ اثناعشر اور قرآن	۳۰	۱	۳۰	دی ٹریٹی آف کربلا انگریزی	۱۱
۱۲	تجارت اور اسلام	۳۱	۱	۳۱	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۱۲
۱۳	اتحاد الفرقین حصہ دوم	۳۲	۱	۳۲	دور استبداد	۱۳
۱۴	علی اور کعبہ	۳۳	۱	۳۳	حقیقت بجا	۱۴
۱۵	دجال بخاری حصہ اول	۳۴	۱	۳۴	خطیب آل محمد	۱۵
۱۶	مذہب باب بہا حصہ اول	۳۵	۱	۳۵	تدوین حدیث	۱۶
۱۷	نور و خدیو	۳۶	۱	۳۶	مطلوب کعبہ	۱۷
۱۸	مجاہدہ کربلا	۳۷	۱	۳۷	مخار بہ کربلا	۱۸
۱۹	کربلا کا آتم بلیدان ہندی	۳۸	۱	۳۸	اسلام کا پیغام	۱۹

ملنے کا پتہ

انڈیری سکریٹری امامیہ مشن لکھنؤ